

UR



نشان انگشت اور یورودیک

ضابطہ (EU) نمبر 603/2013 کی دفعہ (3) 29 کی تعمیل میں ممبر ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم تیسرے ملک کے شہریوں یا بے وطن افراد کے لیے معلومات

اگر آپ کو کسی «ڈبلن، ملک¹» میں غیر قانونی طور پر مقیم پایا جاتا ہے تو ذمہ داران آپ نشان انگشت لے کر «یوروڈیک» کہلانے والے نشان انگشت کے ذخیرہ معلومات کو ارسال کر سکتے ہیں۔ اس کا مقصد صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ نے اس سے پہلے پناہ کے لیے درخواست دی ہے۔ آپ کے نشان انگشت کی معلومات پوروڈیک ذخیرہ معلومات میں محفوظ نہیں رکھی جائیں گی۔ لیکن اگر آپ نے پہلے کسی دوسرے ملک میں پناہ کے لیے درخواست دی ہے تو آپ کو اس ملک میں واپس بھیجا جا سکتا ہے۔

اگر آپ کے نشان انگشت واضح معیار کے نہیں ہیں، جس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر اپنی انگلیوں کو ضرر پہنچا لیا ہو تو آئندہ نشان انگشت دوبارہ لے جاسکتے ہیں۔

یوروڈیک کو یورپی اتحاد کی eu-LISA نام کی ایک ایجنسی چلائی ہے۔ آپ کی معلومات صرف انہی مقاصد کے لیے استعمال کی جائیں گی جن کی وضاحت قانون میں کی گئی ہے۔ صرف یوروڈیک سنٹرل سسٹم آپ کی معلومات وصول کرے گا۔ اگر آپ آئندہ کسی ڈبلن ملک میں پناہ کی درخواست دیتے ہیں تو آپ کے نشان انگشت یوروڈیک کو منتقل کرنے کے لیے بھی لیے جائیں گے۔ یوروڈیک میں محفوظ شدہ معلومات میں یورپی اتحاد (EU) اور ملحق ممالک سے باہر کسی دوسرے ملک یا تنظیم کو شریک نہیں کیا جائے گا۔

بلغاریہ جمہوریہ

1) یہ پورے یورپی اتحاد کا احاطہ کرتا ہے (آسٹریا، بیلجیئم، بلغاریہ، کروشیا، قبرص، چیک جمہوریہ، ڈنمارک، اسٹونیا، فن لینڈ، فرانس، جرمنی، یونان، ہنگری، آئرلینڈ، اٹلی، لیٹویا، لٹوانیا، لکسمبرگ، مالٹا، نیدرلینڈز، پولینڈ، پرتگال، رومانیہ، سلوواکیا، سلوینیا، اسپین، سویڈن، مملکت متحدہ) اور ان کے علاوہ ضابطہ ڈبلن سے «وابستہ» چار ممالک (ناروے آئس لینڈ، سوئٹزر لینڈ اور لیختنسٹین) شامل ہیں۔

© یورپی اتحاد (European Union) 2014

نقل کرنے کی اجازت ہے۔ انفرادی تصویروں کے استعمال یا نقل کے لیے حق اشاعت کے مالکان سے براہ راست اجازت طلب کرنی لازمی ہے۔

معلومات رابطہ

قومی دیکھ بھال کے ادارے شناخت اور پس
کی رابطہ کی تفصیل:

آوروڈیک کنٹرولر کا پتہ اور شناخت کی
تفصیل:

قومی ڈیٹا کی حفاظت کا ادارہ

A. Juozapavičiaus str. 6, 09310 Vilnius
Tel: +370 5 271 2804, +370 5 279 1445
ایمیل: ada@ada.lt
https://www.ada.lt

وزارت داخلہ کے ماتحت مہاجرین کا ادارہ

L. Sapiegos str. 1, 10312 Vilnius
Tel: +370 5 271 7112
ایمیل: md.rastine@vrm.lt
http://www.migracija.lt

اگر ہمارے ذمہ داران یہ سمجھتے ہوں
کہ آپ نے کسی ایسے دوسرے ملک میں
بین الاقوامی تحفظ کے لیے درخواست دی
ہوگی جو اس درخواست کی جانچ کا ذمہ
دار ہو تو آپ کو اس کے بعد کی کارروائی
کے بارے میں مزید تفصیلی معلومات دی
جائیں گی اور یہ کہ آپ اور آپ کے حقوق
پر اس کا کیا اثر ہوگا۔



doi:10.2847/21317

ISBN 978-92-9243-169-3

